

PRINCIPLES OF ACCOUNTING 11th کلاس I-پارٹ (1st A 323 - IV)
(COMMERCE GROUP)

پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ
(کامرس گروپ)

Time: 30 Minutes

Paper: I

11-23
OBJECTIVE

معروضی

I: پرچہ

وقت: 30 منٹ

Marks: 20

Code: 6707

مارکس: 20

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1. 1 - Explanation below entry is called اندراج کے نیچے وضاحت کہلاتی ہے
- (A) اندراج entry (B) وضاحت narration
(C) دوہرا اندراج double entry (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں none of these
- 2 - Preliminary expenses incurred to establish new business نئے کاروبار کو قائم کرنے پر ابتدائی اخراجات کہلاتے ہیں
are called
- (A) مالیاتی ادائیگی revenue payment (B) مالیاتی خرچ revenue expenditure
(C) سرمایہ خرچ capital expenditure (D) سرمایہ نقصان capital loss
- 3 - Favorable balance of cash book bank column is کیش بک کے بک کالم کا موافق بیلنس کہلاتا ہے
- (A) کریڈٹ بیلنس credit balance (B) ڈیبٹ بیلنس debit balance
(C) مثبت بیلنس positive balance (D) منفی بیلنس negative balance
- 4 - In journal, there are روزنامہ میں ہیں
- (A) تین کالم three columns (B) چار کالم four columns (C) پانچ کالم five columns (D) چھ کالم six columns
- 5 - Grace period of bill of exchange is ہنڈی کے لئے رعایتی مدت ہے
- (A) تین دن three days (B) پانچ دن five days (C) سات دن seven days (D) آٹھ دن eight days
- 6 - An error which cancels the effect of other error is called ایک غلطی جو دوسری غلطی کا اثر زائل کرتی ہے کہلاتی ہے
- (A) اثر زائل کرنے والی غلطی compensating error (B) اصولی غلطی error of principle
(C) بھول چک کی غلطی error of omission (D) یک طرفہ غلطی one sided error
- 7 - Advertising is a تشہیری خرچ ہے
- (A) سرمایہ خرچ capital expense (B) سرمایہ ادائیگی capital payment
(C) مالیاتی وصولی revenue receipt (D) مالیاتی خرچ revenue expense
- 8 - Prepaid expense is پیشگی ادا شدہ خرچ ہے
- (A) ایک اثاثہ an asset (B) ایک حاصل a gain (C) ایک خرچ an expense (D) ایک ذمہ داری a liability
- 9 - The process of recording information from journal to ledger روزنامہ سے یہی کھاتہ میں معلومات درج کرنے کے عمل کو کہتے ہیں
is called
- (A) ریکارڈنگ recording (B) جرنلائزنگ journalizing (C) پوسٹنگ posting (D) ٹوٹل کرنا totalling
- 10 - Excess of assets over liabilities is called اثاثہ جات کا ذمہ داریوں سے زیادہ ہونا کہلاتا ہے
- (A) سرمایہ capital (B) نفع profit (C) حقوق equities (D) برداشتی drawings
- 11 - All those things which are purchased for resale purpose وہ تمام اشیاء جو دوبارہ فروخت کرنے کیلئے خریدی جاتی ہیں
are called کہلاتی ہیں
- (A) اثاثہ جات assets (B) فروخت sale (C) واجبات liabilities (D) تجارتی اشیاء goods/merchandise
- 12 - Discount allowed is دی گئی چھوٹ ہے
- (A) ایک اثاثہ an asset (B) ایک آمدنی a revenue (C) ایک ذمہ داری a liability (D) ایک خرچ an expense

(ورق اٹھئے)

9

23-11-11

پاس بک تیار کرتا ہے

- 13 - Pass book is prepared by banker بیکر (C) debtor (A) معروض (A) غائب (D) customer گاہک (D) creditor قرض خواہ (B) غائب یا نام نقصان معلوم کیا جاتا ہے
- 14 - Gross Profit or Gross Loss is determined through trading account تجارتی اکاؤنٹ (B) profit and loss account منافع و نقصان کا اکاؤنٹ (A) منافع (C) زائدہ کا اکاؤنٹ (C) cash account حساب لوبھی کی زبان ہے
- 15 - Accounting is a language of school سکول کی (B) business کاروبار کی (A) none of these ان میں سے کوئی نہیں (D) accountant اکاؤنٹ کی (C) owner of a business کاروبار کے مالک کی (D) school اسکول (B)
- 16 - Bill of exchange is a/an promise وعدہ (B) un-conditional order غیر مشروط حکمانہ (A) request درخواست (C) conditional order مشروط حکمانہ (D) کاروبار کے ذریعے کہلاتے ہیں
- 17 - Bad debts of business are called revenues آمدنیاں (C) liabilities واجبات (B) expenses اخراجات (A) assets اثاثہ جات (D) plant کی خریداری پر کرایہ کی ادائیگی اجرت کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنے کی غلطی کہلاتی ہے
- 18 - Carriage paid on purchase of plant debited to wages account error is called error of principle اصولی غلطی (B) error of omission بھول چک کی غلطی (A) one sided error ایک طرف غلطی (D) compensating error اثر زائل کرنے والی غلطی (C) ان میں سے کس کا عام طور پر کریڈٹ پینٹس ہوتا ہے؟
- 19 - Which one of these has normally a credit balance? خریداری اکاؤنٹ (B) building account عمارت اکاؤنٹ (A) purchase account خریداری اکاؤنٹ (B) machinery account مشین اکاؤنٹ (C) sales account فروخت اکاؤنٹ (D) ان میں سے کس کا عام طور پر کریڈٹ پینٹس ہوتا ہے؟
- 20 - Price of goods sold, is called revenue آمدن (D) expense خرچ (C) profit منافع (B) sales فروختگی (A)

Note: Section I is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section II.

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Section - I حصہ اول

2 - Write short answers to any FIVE (5) questions. (2×5=10) - کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

- i - Define accounting. - i اکاؤنٹنگ کی تعریف کیجئے۔
- ii - Define voucher. - ii وصولی کی تعریف کیجئے۔
- iii - What is Cash System of accounting? - iii کیش سسٹم اکاؤنٹنگ کیا ہے؟
- iv - Explain Accounting Equation. - iv اکاؤنٹنگ کی مساوات کی وضاحت کیجئے۔
- v - Define Journal. - v جرنل کی تعریف کیجئے۔
- vi - What is meant by Zero balance? - vi زیرو بیلنس سے کیا مراد ہے؟
- vii - Explain renewal of a bill. - vii نیا مدتی بل کی وضاحت کیجئے۔
- viii - Prepare the columns of three column cash book. - viii تین کالمی کیش بک کے کالم بنائیے۔

3 - Write short answers to any FIVE (5) questions. (2×5=10) - کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

- i - What is meant by drawee? - i مرتب کنندہ سے کیا مراد ہے؟
- ii - What is meant by discounting of bill of exchange? - ii ہنڈی پر بند لگوانے سے کیا مراد ہے؟
- iii - Define fictitious assets. - iii فرضی اثاثہ جات کی تعریف کیجئے۔
- iv - Give two examples of intangible assets. - iv غیر مرئی اثاثہ جات کی دو مثالیں دیجئے۔
- v - What is meant by gross profit? - v خام منافع سے کیا مراد ہے؟
- vi - Write down four examples of capital expenditures. - vi سرمایہ اخراجات کی چار مثالیں لکھئے۔
- vii - What is meant by capital payment? - vii سرمایہ ادائیگی سے کیا مراد ہے؟
- viii - Give two examples of errors of commission. - viii کمیشن کی غلطیوں کی دو مثالیں دیجئے۔

Section - II حصہ دوم

4 - Journalize the following transaction. (20)

- i - Started business with cash Rs 35,000.
- ii - Goods purchased on credit Rs 13,000.
- iii - Purchased stationery for cash Rs 1,000.
- iv - Furniture purchased for cash Rs 2,000.
- v - The owner withdrew Rs 800 for his personal use.
- vi - Goods sold for cash Rs 2,500.
- vii - Goods purchased from Asif Rs 7,000 for cash.
- viii - Electricity bill paid amounting to Rs 1,950.
- ix - Salaries paid to workers Rs 2,400.
- x - Goods sold on account Rs 4,000.

4 - مندرجہ ذیل لین دین کو جرنل میں ریکارڈ کیجئے۔

- i - مبلغ 35,000 روپے سے کاروبار شروع کیا۔
- ii - مبلغ 13,000 روپے کی ادھار اشیاء خریدیں۔
- iii - مبلغ 1,000 روپے کی نقد سٹیشنری خریدی۔
- iv - فرنیچر خرید کیا مبلغ 2,000 روپے نقد پر۔
- v - مالک نے ذاتی استعمال کے لئے کاروبار سے 800 روپے نکلوائے۔
- vi - مبلغ 2,500 روپے نقد پر اشیاء فروخت کیں۔
- vii - مبلغ 7,000 روپے کی آصف سے نقد اشیاء خریدیں۔
- viii - بجلی کا بل مبلغ 1,950 روپے ادا کیا۔
- ix - مبلغ 2,400 روپے کام کرنے والوں کو تنخواہیں ادا کیں۔
- x - مبلغ 4,000 روپے کی اشیاء ادھار فروخت کیں۔

(درج آئیے)

بقیہ صفحہ نمبر 2 پر جاری ہے۔

23-11-20

- 5- Prepare bank reconciliation statement. (20)
- a - Balance as per cash book Rs 10,000. - a کیش بک کے مطابق 10,000 روپے کا بیلنس ہے۔
- b - Cheques deposited into bank but not yet cleared Rs 3,000. - b 3,000 روپے کے چیک بک میں جمع کروائے لیکن ابھی تک کلیم نہیں ہوئے۔
- c - Bank service charges debited by bank Rs 500. - c بک نے 500 روپے سروس چارجز کی کٹوتی کی۔
- d - Customer directly deposited into bank Rs 2,500. - d 2,500 روپے گاہک نے براہ راست بک میں جمع کروائے۔
- e - Cheques issued but not presented for payment Rs 2,000. - e 2,000 روپے کے چیک جاری کیے لیکن بک میں ادا نہیں کیلئے پیش نہیں ہوئے۔
- f - Interest on investment credited by bank Rs 1,500. - f 1,500 روپے بک نے سرمایہ کاری پر سود کریڈٹ کیا۔
- 6 - Akber sold goods to Bashir for Rs 6,000 on 1st January and draws on Bashir a bill at three months for the amount. Bashir accepted it and returns it to Akber. Akber sent the bill to bank for collection. On due date bank informed that the bill has been collected and deducted Rs 20 as bank charges. (20)
- بیم جنوری کو اکبر نے مبلغ 6,000 روپے کی اشیاء بشیر کو فروخت کیں اور بشیر پر تین ماہ کا ایک مل لکھا۔ بشیر نے اسے قبول کیا اور اکبر کو واپس کر دیا۔ اکبر نے یہ مل بک کو وصولی کیلئے بھیج دیا۔ مقررہ تاریخ کو بک نے اطلاع دی کہ مل جمع کر لیا گیا ہے۔ اور بک نے مبلغ 20 روپے بک اخراجات کے منہا کر لئے۔
- مطلوبہ: اکبر اور بشیر کے روزناموں میں اندراج کیجئے۔
- Required: Show the Journal entries in the books of Akbar and Bashir.
- 7 - Prepare trading, profit and loss account and balance sheet from the given trial balance of Mr. Ali as on 31st December 2020. (20)
- مسز علی کی مورخہ 31 دسمبر 2020 ٹریل بیلنس کی مدد سے ٹریڈنگ، نفع و نقصان کا حساب اور بیلنس شیٹ تیار کیجئے۔

Trial Balance			ٹریل بیلنس		
Debit Balances			Credit Balances		
Description	کوائف	تصبیلات	Description	کوائف	تصبیلات
Opening stock	ابتدائی ذخیرہ	4,500	Capital	سرمایہ	1,34,000
Purchases	خرید	1,75,000	Sales	فروخت	2,35,800
Wages	اجرتیں	7,200	Purchase return	خرید واپسی	9,500
Freight	خرید کردہ اشیاء پر کرایہ	500	Creditors	قرض خواہ	11,000
Salaries	مخزایں	12,000
Cash	نقدی	9,000
Trade debtors	مقروض	18,500
Trade expenses	تجارتی اخراجات	15,600
Advertising	تعمیر	12,000
Sales return	واپسی فروخت	6,000
Building	عمارت	1,30,000
Total	مجموعاً	3,90,300/-	Total	مجموعاً	3,90,300/-

Adjustments:

- i - Depreciate building @15% p.a. - i عمارت پر فرسودگی 15 فیصد سالانہ
- ii - Prepaid advertising expenses are Rs 2,000. - ii پیشگی ادا شدہ تعمیر اخراجات 2,000 روپے
- iii - Outstanding salaries Rs 3,000. - iii واجب الادا مخزایں 3,000 روپے
- iv - Closing stock Rs 12,500. - iv اختتامی ذخیرہ 12,500 روپے

(درج آئیے)

بقیہ صفحہ نمبر 3 - پر جاری ہے - - -